

آئی ایم ایف ، عالمی ، مالیاتی پولیس میں

لاٹینی امریکہ کے ملک ویترویل میں ۱۹۸۹ء میں تین سو سے زائد افراد حکومت مخالف فسادات کی ہیوٹ چڑھ گئے تھے۔ یہ فسادات آئی۔ایم۔ایف (بین الاقوامی مالیاتی فنڈ) کے تجویز کردہ، کفایت شعاری پر مبنی سخت گیر اقتصادی پروگرام کے نتیجے میں پھوٹ پڑے تھے۔ "آئی۔ایم۔ایف فسادات"، ارجنٹائن، پیرو، اردن، مصر، زیمبیا، اور ڈومینیکن ریپبلک میں بھی ہو چکے ہیں۔ آئی۔ایم۔ایف کی پالیسیوں کے نتیجے میں غذائی اشیاء اور تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا، لوگ اس کے خلاف احتجاج کرنے لگے سرخوں پر آگئے تھے۔ آئی۔ایم۔ایف کے Adjustmet پروگرام..... حکومتی اخراجات میں کمی اور ٹیکسوں میں اضافہ چاہتے ہیں۔ تاکہ قرض ادا کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ رقم موجود ہو۔ حکومتی اخراجات میں کمی کے باعث طب و صحت، تعلیم اور رہائشی سہولتوں کے پروگرام متاثر ہوتے ہیں۔

آئی۔ایم۔ایف اپنے اس ایجنڈے کو نبھانے کے لئے شمال کے امیر ملکوں اور تجارتی بینکوں کے لئے روپیہ جمع کرنے کا ایک بے حس ادارہ ہے۔ کچھ عرصے سے ادارے کے کارپردازوں کی زبان میں کچھ تبدیلی آئی ہے اور سماجی تحفظ کے انتظامات کی ضرورت کو کسی حد تک تسلیم کیا گیا ہے۔ مگر اس کی بنیادی پالیسیوں اور کام کرنے کے طریقوں میں چنداں کوئی فرق نہیں آیا۔

آئی۔ایم۔ایف ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے عوام کے ٹیکسوں سے چلتا ہے۔ مگر اس کے باوجود یہ عوام کی جانب سے کسی جانچ پریشان سے دور ہے۔ ایک ہزار سے زائد ماہرین اقتصادیات پر مشتمل اس کا عملہ مقروض ملکوں کی معیشت پر قابل لحاظ اثر رکھتا ہے۔ یہ امر حیرت انگیز ہے کہ جن ملکوں کے لئے یہ ماہرین اقتصادیات پالیسیاں بناتے ہیں ان ملکوں کے بارے میں انہیں شاذ ہی کوئی عملی تجربہ ہوتا ہے۔

آئی۔ایم۔ایف کیا ہے اور کیسے وجود میں آیا؟ آئی ایم ایف کیا کرتا ہے اور اس کی پالیسیوں سے غریب کس طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ ان پالیسیوں کو بدلنے میں آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟

آئی۔ایم۔ایف کیا ہے؟

آئی۔ایم۔ایف ایک بین الاقوامی مالیاتی ادارہ ہے جس کا مرکزی دفتر واشنگٹن ڈی۔سی۔ میں ہے۔ اس کا مقصد وجود عالمی معیشت کو صحیح طور پر چلنے میں مدد دینا ہے تاکہ بین الاقوامی تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا رہے۔ دنیا کے تقریباً تمام ملک اس ادارے سے منسلک ہیں۔ لیکن زیادہ تر سرمایہ امیر صنعتی ملکوں کا ہے جو نتیجتاً

اس ادارے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تقریباً پچاس سال ہو رہے ہیں جب بریٹن وڈز (Bretton woods) نیو ہیپشائر میں اتحادی طاقتوں کی ایک کانفرنس میں آئی۔ایم۔ایف اور اس کا برادر ادارہ ورلڈ بینک قائم کیے گئے تھے۔ اس پس منظر میں آئی۔ایم۔ایف اور ورلڈ بینک کو اکثر "بریٹن وڈز ادارے" سمجھا جاتا ہے۔ کانفرنس کے

وقت اتحادی حکومتوں کی سوچ یہ تھی کہ ۱۹۳۰ء کے عشرے کی وہ کساد بازاری دوبارہ پیدا نہ ہو، جب صنعتی ملکوں کی مابینی پالیسیوں نے بین الاقوامی کاروبار میں خلل پیدا کیا تھا اور پوری دنیا کساد بازاری کی لپیٹ میں آگئی تھی۔

ابتداء میں ورلڈ بینک کا مقصد دوسری عالمی جنگ سے تباہ شدہ یورپ کی تعمیر نو میں سہولت پیدا کرنا تھا۔ مگر جلد ہی اس نے اپنا کردار بڑھا کر ترقیاتی بینک کی حیثیت اختیار کر لی اور دنیا کے غریب ملکوں میں اقتصادی ترقیاتی منصوبوں کے لئے قرض دینے لگا۔ اس کے برعکس آئی ایم ایف ان ملکوں کو قلیل السداد قرضے جاری کرنے کے لئے قائم کیا گیا تھا، جن کے پاس غیر ملکی کرنسی میں رقم نہ ہو، جو ان کی بین الاقوامی تجارت کے لئے ضروری ہے۔ آئی ایم ایف کا ہر رکن ملک اپنی کرنسی میں کچھ رقم ادا کرتا ہے۔ جس کے نتیجے میں وہ ملک کسی بھی کرنسی میں آئی ایم ایف سے ادھار لینے کا استحقاق حاصل کر لیتا ہے۔ غیر ملکی کرنسی میں ادھار لینے کی یہ خوبی کسی ملک کو زرمبادلہ کے بحرانی دور میں (جب اسے اچانک کوئی ضرورت آپڑے، اور ضروری درآمدات کے لیے اس کے پاس ڈالروں یا کسی دوسری بین الاقوامی کرنسی میں رقم موجود نہ ہو) صورت حال پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے۔ اگر کوئی ملک اپنے کوٹہ سے زیادہ ادھار لیتا ہے تو آئی ایم ایف کی طرف سے طے کردہ شرائط کی اسے سختی سے پابندی کرنا ہوگی۔ کیوں کہ بین الاقوامی قرضوں کی واپسی ڈالروں یا دوسری بین الاقوامی کرنسیوں ہی میں ہوتی ہے۔ مقروض ملک کو اپنی برآمدات سے اتنی رقم لازماً گمانا چاہیے تاکہ وہ قرض اور اس کا سود ادا کرنے کی پوزیشن میں ہو۔

آئی ایم ایف کا کردار کیا ہے؟

کچھ عرصے پہلے تک آئی ایم ایف پر لکھنے والوں کی تعداد کچھ زیادہ نہ تھی۔ لیکن ۱۹۸۲ء میں اس وقت آئی ایم ایف سب کی نظروں میں آگیا جب عالمی سطح پر قرضوں کا بحران شروع ہوا۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں افراط زر میں اضافہ رکھنے کے لیے جو پالیسیاں اپنائی گئیں، ان کے نتیجے میں شرح سود میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور شرح سود کے اضافے سے میکسیکو، برازیل اور فلپائن جیسے ملکوں کے قرضے آسمان سے باتیں کرنے لگے، کیوں کہ انہوں نے متغیر شرح سود پر بہت زیادہ قرضے لے رکھے تھے۔

اسی اثناء میں صنعتی ملکوں میں کساد بازاری سے مقروض ملکوں کی برآمدات (معدنیات، زرعی اشیاء اور چھوٹی موٹی مصنوعات) کی طلب اور قیمتیں دونوں بہت زیادہ ہو گئیں۔ جب سود کی مقدار ڈرامائی طور پر بڑھ گئی تو مقروض ملکوں کی برآمدات سے حاصل ہونے والی آمدنی میں نمایاں طور پر کمی ہو گئی۔ قرض دینے والوں کو خوف لاحق ہو گیا کہ بڑے بڑے مقروض اپنی ادائیگیاں نہ کر سکیں گے، ان کی جانب سے یکے بعد دیگرے عدم ادائیگی کی لہر سے بین الاقوامی مالیاتی نظام تباہ ہو جائے گا۔

آئی ایم ایف نے مداخلت کی اور سخت مقروض ملکوں کو فوری نوبہندگی سے بچانے کی خاطر تجارتی بینکوں سے ان کے لیے قرضوں کا اہتمام کیا۔ نئے قرضوں کے نتیجے میں، قرض لینے والے ملکوں کو کفایت شعاری اور پیسٹ کاٹنے کے سخت اقدامات کرنے پڑے۔ آئی ایم ایف نے حکومتی اخراجات میں کافی کمی کرنے پر اصرار کیا، تاکہ قرض کی ادائیگی کے لیے رقم بچ سکے۔ آئی ایم ایف اور اس کے بڑے بڑے شراکت دار ممالک کی اولین ترجیح قرضوں کا واپس لینا ہے۔ مگر مذکورہ انتظامات نے ترقی پذیر ممالک کو مزید مقروض بنایا، جب کہ ان کی معیشت کساد بازاری کا شکار ہو گئی۔

اپنے اخراجات کم کرنے کی خاطر، مقروض قوموں نے صنعتی ملکوں سے درآمدات کم کر دیں۔ ۱۹۸۵ء تک اس کے نتیجے میں صرف ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں دس لاکھ سے زائد افراد بے روزگار ہوئے۔ مقروض ملکوں میں بنیادی ڈھانچے پر خرچ کی واقعی ضرورت کے باوجود خرچ نہ ہوا۔ نتیجے میں ان کی بیدواری صلاحیت گر گئی۔ یہ واضح ہو گیا کہ مسئلہ قلیل السیاد Liquidity کی کمی کا نہیں، بلکہ طویل السیاد اقتصادی ترقی کی ضرورت ہے۔

قرض مزید بڑھ گئے

اگرچہ تجارتی بینکوں نے قرض دینے کے معاہدوں سے حاصل ہونے والے کمیشنوں سے اتنا منافع کمایا، جتنا انہوں نے پہلے کسی نہ کمایا تھا۔ لیکن وہ تیسری دنیا کو قرض دینے کے کاروبار سے الگ ہو جانے کے لیے بے تاب تھے۔ چنانچہ آئی۔ ایم۔ ایف کی برادر تنظیم ورلڈ بینک مختلف حکومتوں کے لیے ترقیاتی رقم کی فراہمی کا سب سے بڑا ذریعہ بن گیا ہے۔ ورلڈ بینک سرٹکوں، پین بجلی کے بندوں اور صحت کے پروگراموں کے لیے قرض دیتا ہے لیکن ۱۹۸۰ء کے عشرے کے آغاز سے اس نے بنیادی اقتصادی ڈھانچے میں ردوبدل کے پروگراموں Structural Adjustment Programs کے قرضے فراہم کیے ہیں۔ یہ متنازع قرضے مقروض ملکوں نے پرانے قرض اتارنے کے لیے بھی خرچ کیے ہیں۔

"بنیادی اقتصادی ڈھانچے میں ردوبدل کے پروگرام" سرٹکوں یا آبی ذخیروں کی تعمیر جیسے پروجیکٹ نہیں، بلکہ ایسے قرضے ہیں جو اقتصادی پالیسیوں میں دور رس اور اکثر مشکل اور سخت تبدیلیاں لانے میں کسی ملک کی مدد کرتے ہیں۔ آزاد منڈی کی معیشت (جس کے ساتھ یہ قرضے منسلک ہوتے ہیں) کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ اس سے حکومتی سرمایہ بچے گا اور آخر الامر اس سے پیداواری قوت اور فعالیت میں اضافہ ہوگا۔ نظری طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ ان تبدیلیوں سے مزید ٹیکس جمع ہوں گے جو بنیادی اقتصادی ڈھانچے میں ردوبدل کئیے دیے گئے قرض واپس کرنے میں ملک کی مدد کریں گے۔ مگر عملاً صورت حال یہ ہے کہ بری طرح قرضے میں جکڑے ہوئے ملک دس سال میں نئے قرض لے کر نہ تو غربت میں کمی کر سکے ہیں اور نہ قرض اتار سکے ہیں جو ان کی معیشت کے لیے ناقابل برداشت ہو جھ ہے۔

آئی۔ ایم۔ ایف، ورلڈ بینک کی نسبت بہت کم رقم قرض دیتا ہے، مگر مقروض ملکوں کے اقتصادی پروگرام ترتیب دینے میں کبھی بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ آئی۔ ایم۔ ایف اب عالمی مالیاتی پولیس مین کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ مقروض ملکوں سے اپنی پالیسیاں منواتا ہے۔ تاکہ اس بات کی ضمانت رہے کہ وہ اپنے قرضے ادا کرتے رہیں گے۔ اکثر اوقات کسی ملک کے لیے تجارتی بینکوں کے قرضے اور ترقیاتی امداد روک لی جاتی ہے، تاوقتیکہ متعلقہ ملک آئی ایم ایف کے ساتھ اقتصادی پروگرام طے نہ کر لے۔ اس طرح آئی ایم ایف کو بے پناہ طاقت حاصل ہو گئی ہے کیوں کہ قرضوں میں جکڑے ہوئے ملک اپنی معیشت کو چلانے کے لیے قرضوں اور امداد پر انحصار کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف کی ان پالیسیوں کی وجہ جواز یہ ہے کہ کوئی ملک ہمیشہ کے لیے اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر ملک کو "ردوبدل" کرتے ہوئے اپنی عادتیں بدلنا ہیں۔ مگر جو چیز آئی ایم ایف کی توجہ حاصل نہیں کرتی وہ یہ ہے کہ قرض پر چڑھنے والے سود کی رقم کم کی جائے۔ اور یہ ورلڈ بینک کی طرح "بنیادی اقتصادی ڈھانچے میں ردوبدل کے

پروگراموں "کو اہمیت دے رہا ہے۔ ان پروگراموں کے ساتھ بالعموم حسب ذیل شرائط لگی ہوتی ہیں۔
(۱) درآمدی اشیاء پر ٹیکس ختم کرنا تاکہ غیر ملکی تجارتی اداروں کے لیے اپنی اشیاء اور خدمات فروخت کرنا آسان ہو جائے۔

(۲) کرنسی کی شرح تبادلہ میں کمی جس سے درآمدات مزید منگنی ہو جاتی ہیں اور برآمدات سستی۔
(۳) خوراک اور زرعی اشیاء پر حکومتی رعایت کا خاتمہ، جس سے کسان متاثر ہوتے ہیں۔ نیز افلاس اور بھوک میں اضافہ ہوتا ہے۔
(۴) حکومتی اخراجات میں کمی، زیادہ تر صحت، تعلیم اور رہائشی سہولتوں کے شعبے میں۔
(۵) اجرتوں کے کنٹرول کا نفاذ، جس سے مزدوروں کی حقیقی آمدنی کم ہو جاتی ہے۔
(۶) ملکی قرضوں پر سست پابندیاں جن سے کاروباری امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص خواتین اور چھوٹے کاروبار کے لیے۔
(۷) ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی رقم میں اضافہ جو اکثر تیل کی قیمت اور سیلز ٹیکس میں اضافے سے کیا جاتا ہے اور آبادی کا غریب طبقہ نسبتاً زیادہ متاثر ہوتا ہے۔

ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی طرف سے غربت کے خاتمے کے لیے زبانی جمع خرچ کے علی الرغم مذکورہ بالا پالیسیوں سے غریبوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے اور ماحول کو نقصان پہنچا ہے۔ ایک طرف متروض ملکوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی معیشتوں کو عالمی مقابلے کے لیے کھول دیں۔ دوسری طرف صنعتی ملک ان ملکوں کی برآمدات کے لیے بدستور تجارتی رکاوٹیں قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اس صورت حال کا اصل فائدہ ان کثیر الملکی کارپوریشنوں (ملٹی نیشنل کمپنیوں) کو حاصل ہو رہا ہے جو یکساں آسانی کے ساتھ ترقی پزیر اور ترقی یافتہ ملکوں میں کاروبار کرتی ہیں۔

آئی ایم ایف کی "دفعات معاہدہ" کے مطابق اسے اپنے رکن ملکوں کو..... "ان کی ادائیگیوں کے توازن کی کمزوریاں درست کرنے کے لیے اس طرح موقع دینا چاہیے کہ کوئی اقدام بین الاقوامی یا قومی خوشحالی کے لیے تباہ کن نہ ہو۔"

متاثر کون ہوتا ہے؟

قرضوں کے بحران سے جنم لینے والی "کفایت شعاری" سے جو لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ان میں سرفہرست وہ ہیں جو بمشکل جان و تن کا رشتہ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ غلیاں کن کی تنظیم "اتحاد برائے نجات از قرض" کے سربراہ نے اپنے ملک میں بنیادی ڈھانچے میں تبدیلیوں کے پروگراموں کو سکولوں، گھروں اور ملازمت سے لوگوں کو ہٹانے اور انتہائی صورتوں میں زندگی سے محروم کیے جانے کے مترادف قرار دیا ہے۔

پیرو میں صدر فیجوی موری نے قرض کی ادائیگی کے لیے رقم بچانے، افراط زر پر قابو پانے، قیمتیں مستحکم کرنے اور سب سے بڑھ کر قرض دینے والے ملکوں کی خوشنودی کے لیے اپنی قوم پر سادگی اور کفایت شعاری مسلط کی۔ انہوں نے تعلیم، صحت عامہ، رہائش اور خوراک میں رعایت جیسی مددات پر حکومتی اخراجات کم کر دیے۔ انہوں نے اجرتوں کی کم سے کم سطح ختم کر دی، مگر قیمتوں کو بڑھنے دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گیس کی قیمت میں تین ہزار فی صد، پانی اور بجلی میں ۱۳ فی صد اور بنیادی اشیاء صرف کی قیمتوں میں دس فیصد اضافہ ہو گیا۔ یہ تھی آزاد مندی کی معیشت۔ پیرو کے لوگوں کی اکثریت کے لیے "فیجوی موری دھچکا" کے اثرات تباہ کن ثابت ہوئے۔ ایک اندازے

کے مطابق ملک کی نصف سے زائد آبادی (ایک کروڑ تیس لاکھ افراد) افسوس ناک افلاس کا شکار ہے۔ صحت عامہ کے منصوبوں میں کٹوتی سے عملایہ شعبہ دم توڑ گیا ہے۔ ہیضہ، تپ دق، ہیپیش اور جذام جیسی بیماریوں سے ہزاروں افراد لقمہ اجل بنے ہیں۔ زیادہ تر مرنے والے غریب طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو علاج معالجہ کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ یونیسف کی جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق پانچ برس سے کم عمر کے بچوں میں دس لاکھ کو مناسب خوراک نہیں ملتی۔ قرض ادا کرنے کی غرض سے خوراک اور صحت عامہ کا بٹھ کم کر کے جو رقم بچائی جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں فلپائن میں ایک بچہ ہر گھنٹے بعد مر جاتا ہے۔ امریکی کیسٹوولک بشپوں کی کانفرنس نے "تیسری دنیا کے قرض پر بیان" میں کہا ہے..... "ہمارے رفیق شپ قوتار کے ساتھ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ خدا کی شبیہ پر پیدا کیے گئے انسان، قرض کے بحران سے واقف ہو رہے ہیں۔ بالخصوص بچے اور خواتین، اور یہ صورت برداشت سے باہر ہے۔"

آئی۔ ایم۔ ایف کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے آٹے وال پر دی گئی رعایتوں سے متوسط اور اعلیٰ طبقات فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس لئے یہ رعایتیں ختم ہونی چاہئیں۔ لیکن غریبوں پر کیا گزرتی ہے، جب وہ دو وقت کی روٹی سے محروم ہو جاتے ہیں؟ صحت عامہ کے حکومتی پروگراموں پر عوام کی پیداواری صلاحیت اور صحت کا انحصار ہے، مگر ان کے بٹھ میں بہت زیادہ کمی ہو چکی ہے۔ غریب لوگ سرکاری سکولوں اور ہسپتالوں پر انحصار کرتے ہیں، کیوں کہ ان کے لیے پرائیویٹ خدمات حاصل کرنا ممکن نہیں۔ غریب اسی وقت ہسپتال جاتا ہے جب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا۔ مگر جب وہ ہسپتال جاتے ہیں تو انہیں علاج معالجہ حاصل ہونے سے پہلے مرہم پٹی سے لے کر خون تک خریدنا پڑتا ہے۔ یہی صورت حال سکولوں کی ہے۔

غریب لوگوں کے پاس صرف ان کی محنت ہے، مگر اجرتیں کم رکھی جاتی ہیں۔ تاکہ غیر ملکی کارپوریشنیں اقتصادی "فری زون" پالیسی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ملک میں آئیں۔ ٹریڈ یونین کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ اس طرح غریبوں کے لیے اپنے حالات کار بہتر بنانے یا اجرتوں میں اضافہ کرانے کی کوئی طاقت نہیں۔ اکثر قابل کاشت زمین پر "فری زون" قائم کیے جاتے ہیں اور مقامی طور پر اجناس اگانے کے لیے زمین کم ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کی تیاری پر روز دیا جاتا ہے جو برآمد ہو سکیں۔ تاکہ قرض کی ادائیگی کے لیے زر مبادلہ کمایا جاسکے۔ برآمدات سب اچھی ہیں، مگر خوراک اور رہائش کے لیے مناسب اجرت سب سے زیادہ اہم ہے۔

"بنیادی اقتصادی ڈھانچے میں ردو بدل" اور قرض کا بوجھ ماحول کو خراب کرتا ہے۔ حد سے زیادہ مایہ گیری، جنگلات کا صفایا اور Strip Mining سب کچھ اس لیے ہے کہ برآمدات بڑھا کر قرض اٹار جائے یا اس کا سود دیا جائے۔ "قرض کے بحران" کے نتیجے میں بے روزگاری نے دنیا بھر کے کروڑوں افراد کو جنگلات کا صفایا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ برازیل میں چھوٹے چھوٹے کھیتوں کو سویا بین کے بڑے بڑے فارموں میں تبدیل کیا گیا تو اس کے نتیجے میں ہزاروں خاندان معاش سے محروم ہو گئے۔ عالمی منڈی میں سویا بین کی فروخت سے ملک میں ڈالر آگئے۔ مگر جو لوگ بڑے بڑے فارموں کے لیے جگہ حاصل کرنے سے بے گھر ہوئے، انہوں نے ایمرن کارخ کیا۔ آخر الامر ماحولیاتی تباہی سے غریب ہی متاثر ہوئے ہیں۔ ان ہی کا انحصار زمین اور بقاء کے لیے بہتر آب و ہوا پر ہے۔ فلپائن میں جان و تن کا رشتہ قائم رکھنا از حد مشکل ہو گیا ہے۔ غیر قانونی طور پر جنگلات کاٹنے اور پہاڑوں کی جانب لوگوں کی

نقل مکانی کے نتیجے میں خشک سالی اور سیلابوں کا تباہ کن سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ حال ہی میں فلپائن کو آئی۔ ایم۔ ایف کی شرائط کے تحت ادائیگی قرض میں پالیسی کروڑ ڈالر کی رقم امیر صنعتی ملکوں کو ادا کرنی پڑی ہے۔ حالانکہ ماحولیاتی تحفظ کے پروگرام کے لیے اس رقم کی شدید ضرورت تھی۔ قرض دینے والے ملک طے کردہ شرائط میں صرف اسی صورت میں کوئی رد و بدل کرتے ہیں۔ جب متعلقہ ملک نے آئی۔ ایم۔ ایف سے معاہدہ کر لیا ہو۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟

جن تنظیموں نے آئی۔ ایم۔ ایف کو اپنی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے، ان میں یونیسف، فرینڈز آف دی ارٹھ، اکفام، سیو دی چلڈرن (برطانیہ) اور "امریکن کیٹھوک بشپس کانفرنس" جیسے متنوع ادارے شامل ہیں۔ ۱۹۸۸ء میں "بنیادی ڈھانچے میں تبدیلیوں" کے پروگراموں سے پیدا ہونے والے طویل السیاد نقصانات کی تفصیلات یونیسف نے اپنی ایک رپورٹ میں پیش کیں تو آئی۔ ایم۔ ایف نے اقتصادی ماہرین کی ایک ٹیم کی خدمات حاصل کیں۔ تاکہ بعض ملکوں میں سماجی تحفظ کے پروگرام بنائے جائیں، لیکن سماجی تحفظ کے لیے یہ اقدامات ان نقصانات کا ازالہ کرنے سے قاصر ہیں جو "بنیادی ڈھانچے میں تبدیلیوں" کے پروگراموں کے نام پر ہوتے ہیں۔ ان پروگراموں کو اس طرح مرتب کیا جانا چاہیے کہ غربت و افلاس کا خاتمہ ہو۔ یہ متوازن اور ترقی پزیر معیشت کے لیے ضرط اول ہے۔

آئی۔ ایم۔ ایف رکن ملکوں کی میا کردہ رقم سے چلتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کے چلانے میں ہم سب شامل ہیں۔ اگرچہ ہر رکن ملک آئی ایم ایف کے انتظامی اخراجات برداشت کرنے میں شامل ہے، مگر امیر اور صنعتی ملکوں کا حصہ بہت زیادہ ہے اور اس کی پالیسیوں پر عمل آں ہی کا کنٹرول ہے۔ ہمیں اپنے سرکاری افسران اور نمائندوں کو بتانا چاہیے کہ ہم آئی ایم ایف کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں۔ "فرینڈز آف دی ارٹھ" کی ایسی ہی ایک مہم کے نتیجے میں قانون سازی کی گئی ہے جس کے تحت آئی ایم ایف میں شامل امریکی نمائندوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اس ادارے کو اپنے پروگراموں میں سماجی اور ماحولیاتی حوالے سے اصلاحی تبدیلیوں کے لیے آمادہ کریں۔ تبدیلیاں یہ ہیں:

آئی ایم ایف کے اندر آڈٹ کے ایک با اختیار مجھے کا قیام جو آئی ایم ایف کے پروگراموں سے ہونے والے سماجی اور ماحولیاتی اثرات کا جائزہ لے گا۔

سماجی اور ماحولیاتی اثرات سے متعلق تحقیق کا استعمال

آئی ایم ایف کے پروگرام ترتیب دیتے ہوئے عوامی تنظیموں اور متعلقہ وزارتوں کی شراکت

"آمدنی بمقابلہ خرچ" کے تجزیوں میں اصلاحات کا نفاذ تاکہ آئی ایم ایف کی پالیسیوں کے واقعی ماحولیاتی نقصان کا جائزہ سامنے آئے۔

ایک سال کے بعد پبلک رپورٹ کی اشاعت جو روس کو دی گئی انداد کی حکمت عملی کے جائزے پر مشتمل ہوگی۔ اس میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ قدرتی ماحولیاتی ذرائع کو تباہ کیے بغیر اور غریب آبادی پر مزید بوجھ ڈالے بغیر اقتصادی ترقی ہوتی ہے۔

ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ آئی ایم ایف اس قانون سازی پر عمل کرتا ہے یا نہیں، تاہم اب تک ہمارا تجربہ یہ

ہے کہ آئی ایم ایف کے کار پرواز صرف اسی صورت میں توجہ دیتے ہیں جب انہیں رقم نہیں ملتی۔ حالیہ رائے شماری میں امریکی کانگریس آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی امداد میں کٹوتی کے بہت قریب آچکی ہے۔ آئی ڈی اے (ورلڈ بینک کا ذیلی ادارہ جو نرم شرائط پر قرض دیتا ہے) کے لیے اس وقت تک مالیات روک لی گئی ہیں، جب تک ورلڈ بینک کے قرضوں سے چلنے والے منصوبوں کے بارے میں اطلاعات کی فراہمی میں زیادہ آزادانہ اور جمہوری پالیسی اختیار نہیں کر لی جاتی۔ اگر آئی ایم ایف کی کارکردگی میں کوئی ڈر لگائی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں سخت امدادات کے لیے کوشاں ہونا چاہیے۔

آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی امداد میں قابل لحاظ کمی کے لیے ہم اپنے منتخب نمائندوں کا تعاون حاصل کر سکتے ہیں۔ ان اداروں کی طرف سے ہر تین سال بعد امریکی حکومت کو لہذا کے لیے کہا جاتا ہے۔ یعنی آئی ایم ایف کی آئندہ درخواست ۱۹۹۸ء میں پیش ہوگی۔ ہمارے پاس وقت ہے کہ عوامی سطح پر ایک مضبوط احتجاجی تحریک منظم کریں۔ ۱۹۹۳ء میں ان ماحولیاتی اداروں نے پچاس سال پورے کیے تو دنیا بھر میں متعدد تنظیموں نے اس نعرے کے ساتھ احتجاج کیا کہ 50 year is Enough (پچاس سال میں بہت ہو گئی)

پیغام بہت واضح ہے۔ ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لیے مزید "بہت اور قرض" کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ بینک کی ایسی رپورٹ کے مطابق (جو عام نہیں کی گئی) اس کے ۳۵ فیصد منصوبے ناکام ہو چکے ہیں۔ اور واقعاً اس بات کا امکان ہے۔ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف "اقتصادی ڈھانچے میں بنیادی تبدیلیوں" کے لیے مزید قرضے نہ دے جو سو کی داسی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور ان سے وسیع بنیادوں پر کوئی اقتصادی ترقی نہیں ہو رہی۔

آخری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو امیر ملکوں کے باشندے ہیں، اپنے صرف کمی کر کے ایک کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہر س ڈالی اور رابرٹ گڈ ٹینڈ جیسے محترم و معزز ماحولیاتی ماہرین اقتصادیات کے دلائل متاثر کن ہیں کہ دنیا کے

شمال میں واقع (امیر) ممالک کو قدرتی ذرائع کے استعمال میں کمی کرنا چاہیے تاکہ یہ جنوب واقع (غریب) ملکوں کے کام آسکیں۔ اور محدود ماحولیاتی خطہ کو خراب نہ کریں۔ شمال کے ملکوں کو بنی نوع انسان کی مشترک اشیاء (کہ وہ ہوائی، خطہ ہوا وغیرہ) کے اندھا دھند استعمال میں کمی کرنا چاہیے۔ یہ ماہرین اقتصادیات انسانی ذرائع میں سرمایہ کاری کے ساتھ ماحول کو پیچھے والے نقصانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بات کا اضافہ کرتے ہیں کہ جنوب میں واقع ممالک میں براہ راست غربت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔

آئی ایم ایف کا اپنا کہنا ہے۔۔۔۔۔ اعلیٰ معیار سے مراد ایسی ترقی ہے جو اپنے اندر مستقبل میں مزید وسیع ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور یہ "انسانی سرمائے" میں بہتر اور زیادہ سرمایہ کاری سے ممکن ہے۔ "اعلیٰ معیار" کی ترقی جب ہی قابل برداشت ہے کہ اس میں غریب لو کمزور طبقوں کا خیال رکھتے ہوئے ماحول۔۔۔۔۔ دریاؤں، جنگلوں، سمندروں، یا بنی نوع انسان کے کسی بھی مشترک سرمائے کو تباہ نہ کیا جائے۔

ہم امید رکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف اپنا طے کردہ چیلنج آئندہ پیش نظر رکھے گا۔

(بلکہ یہ ماہنامہ "عالم اسلام اور عیسائیت" اسلام آباد۔ نومبر ۱۹۹۶ء)